

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن ڈاؤن ٹاؤن میں منتقلی کے حوالے سے راجرز کی 100M\$ کی مجوزہ سرمایہ کاری کی حمایت کرتا ہے۔

برامپٹن، آن (27 جنوری 2022) – گزشتہ روز برامپٹن سٹی کونسل نے اپنے اجلاس میں، راجرز کمیونیکیشنز کی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں منتقلی کی حمایت کے لیے ایک سفارش کی منظوری دی ہے۔

اس نئی مجوزہ پیش رفت کے ذریعے، 3,000 ملازمین ڈاؤن ٹاؤن میں 200,000 مربع فٹ جگہ پر منتقل ہوں گے۔ نیا کیمپس دفاتر اور ریٹیل کی جگہوں پر مشتمل ہو گا، جس میں مزید دفاتر کے لیے جگہیں مرحلہ وار طور پر شامل کی جائیں گی۔

اسٹریٹجک نوعیت کا یہ نیا مقام اور سرمایہ کاری ایک متحرک ٹرانزٹ پر مبنی کمیونٹی کو فروغ دینے اور کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے مرکز میں راجرز برامپٹن کے نئے دفتر کے قیام میں مدد فراہم کرے گی، جس سے راجرز اور برامپٹن دونوں کی ہنر مند انفرادی قوت تک رسائی وسیع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ، سائبر سیکیورٹی یونٹ کی راجرز برامپٹن کیمپس سے انوویشن ڈسٹرکٹ میں منتقلی سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں قومی سطح کے رہنماء کے طور پر سٹی کی پوزیشن کو تقویت فراہم کرے گی۔

### اقتباسات

"میں راجرز کی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں اس مجوزہ نقل مکانی کا خیر مقدم کرتے ہوئے انتہائی پرجوش محسوس کر رہا ہوں، جو حال ہی میں شہر کی جانب سے کی جانے والی شاندار تبدیلیوں اور سرمایہ کاری کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ برامپٹن ہمارے کاروبار کے لیے ایک خوش آئند جگہ رہے اور ہماری کونسل اور عملہ اس نئی پیش رفت کی حمایت کے لیے اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ شہر کے مرکز میں موجودگی کی وجہ سے راجرز کی یہ نئی سائٹ کینیڈا کے انوویشن کوریڈور اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں قومی رہنماء کے طور پر ہماری پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گی اور میں اگلے پرجوش اقدامات کا منتظر ہوں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو تبدیل کرنے کی اپنی کوششوں میں بڑی پیش رفت دکھا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا، بعد از ثانی استعمال، اختراعات اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کرنا ہے۔ راجرز کمیونیکیشنز کے ایک نئے دفتر کی آمد اور 3,000 ملازمین کی منتقلی کے ذریعے، یہ کیمپس ڈاؤن ٹاؤن میں ایک طویل مدتی احیاء اور معاشی کامیابیوں کی بنیادیں فراہم کرے گا۔ ہم اس پرجوش منصوبے پر مسلسل منصوبہ بندی کرنے اور اپنے رہائشیوں، کاروباروں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کے لیے شہر کے مرکز کو مزید وسعت دینے کے منتظر ہیں۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"راجرز کی جانب سے یہ مجوزہ نقل مکانی ہمارے شہر کے ڈاؤن ٹاؤن میں جاری خوش آئند تبدیلیوں کے عمل اور اسٹریٹجک سرمایہ کاریوں کا ثبوت ہے۔ مخلوط استعمال کی اس نئی پیش رفت کو معاونت فراہم کرنے کے ذریعے، ہم اپنے رہائشیوں اور کاروباری کمیونٹی کے لیے طویل مدتی مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے اس پیش رفت کی حمایت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جس سے ہمارے شہر کو ایک متحرک اور لچکدار ڈاؤن ٹاؤن بنانے میں مدد ملے گی۔"

- مارٹن میڈروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4، چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"اسٹریٹجک سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کے ذریعے، ہم اپنے شراکت داروں اور اپنی کاروباری کمیونٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سمارٹ، پائیدار اور کامیاب ترقی کو فروغ دینے میں سنجیدہ ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں کہ راجرز نے اس کو تسلیم کیا ہے اور وہ ہمارے ڈاؤن

ٹاؤن میں جاری تبدیلیوں کے کام میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نئی پیش رفت کے ذریعے، ہم ملازمتیں پیدا کریں گے، اپنی معاشی بحالی اور ترقی میں مدد حاصل کریں گے اور برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنائیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)